

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

نظامت فاصلاتی تعلیم مفوضہ کام - 3

اکائی: 17 تا 24

سمسٹر: دوسرا

کورس: بی کام

مضمون: فینانشیل اکاؤنٹنگ - II

جملہ نشانات: 30

داخل کرنے کی آخری تاریخ:

حصہ: الف

(5 x 1 = 5)

1. خالی جگہوں کو پُر کیجئے۔

(i) 1,00,000 روپے پر 10% فرسودگی عائد کرنے پر 6 ماہ کی فرسودگی کی رقم _____ روپے ہوگی۔

(ii) مالیاتی سال کی مدت _____ ہوتی ہے۔

(iii) حاصل چندوں کے آمدنی و اخراجات کھاتے میں _____ جانب بتلایا جاتا ہے۔

(iv) تنخواہوں کو وصولی و ادائیگی کھاتے میں _____ جانب بتلایا جاتا ہے۔

(v) غیر کاروباری اداروں کو آمدنی کے ذرائع کی مثالیں _____ ہیں۔

حصہ: ب

(5 x 3 = 15)

ذیل کے سوالات میں سے کسی پانچ کے جوابات دیجئے۔

2. غیر کاروباری تنظیم سے کیا مراد ہے؟ اس کے خدوخال کیا ہیں؟

3. غیر کاروباری تنظیم کے فائدے اور نقصانات بیان کیجئے۔

4. وصولی اور ادائیگی کھاتے کا نمونہ دیجئے۔

5. آمدنی و خرچ کھاتے اور نفع و نقصان کھاتے کے درمیان فرق کیجئے۔

6. فرسودگی فنڈ انویسٹمنٹ طریقے کی وضاحت کیجئے۔

7. ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سال 2021 کے چندے محسوب کیجئے۔

دوران سال 2021 میں حاصل جملہ چندے 3,80,000 روپے، سال 2020 کے وصول شدنی چندے 20,000 روپے، سال

2022 کے پیشکش حاصل چندے 30,000 روپے، سال 2021 کے وصول شدنی چندے 10,000 روپے۔

8. ذیل کے تفصیلات کی مدد 31 دسمبر 2020 سال ختم پر وصولی و ادائیگی کھاتہ تیار کیجئے۔ ہاتھ میں نقدی کے میزان 1,50,000 روپے

حاصل چندے 2,00,000 روپے (بشمول 5,000 روپے سال 2019 کے ہیں) حاصل کرایہ 50,000 روپے، تنخواہیں 50,000

روپے، اجرت 10,000 روپے، سفری مصارف 20,000 روپے، حاصل سود 10,000 روپے، قدیم اخبارات کی فروخت 5,000 روپے، عمارت کی تعمیر پر عطیہ 1,00,000 روپے۔

9. یکم جنوری 2016 کو 2,00,000 روپے کی مشین خریدی گئی۔ یکم جنوری 2017 کو دوسری مشین خریدی گئی۔ دونوں مشینوں پر سالانہ 10% فرسودگی عائد کرتے ہوئے گھٹتے ہوئے بقایا کے طریقے پر پانچ سال کا مشین کھاتہ کھولیں۔

حصہ: ج

ذیل کے سوالات میں سے کسی دو کے جوابات تفصیل سے دیجئے۔
(2 x 5 = 10)

10. فرسودگی کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اس کے اسباب کی وضاحت کیجئے۔
11. فرسودگی محسوب کرنے کے یکساں قسطوں کے طریقے اور گھٹتے ہوئے بقایا کے طریقے کے درمیان امتیاز کیجئے۔
12. غیر کاروباری تنظیم کی اہمیت اور اس کے افعال کو بیان کیجئے۔
13. یکم جنوری 2021 کو 1,00,000 روپے کی مشین خریدی گئی۔ یکم جولائی 2022 کو 2,00,000 روپے کی دوسری مشین خریدی گئی۔ یکساں قسطوں کے طریقے پر سالانہ 10% فرسودگی محسوب کرتے ہوئے 5 سال کا مشین کھاتہ کھولیں۔
14. ذیل میں دیئے گئے تفصیلات کی مدد سے لائنس کلب کا ڈسمبر 2020 سال ختم پر آمدنی و اخراجات کھاتہ تیار کیجئے۔ حاصل چندے 2019-50,000 روپے، 2020-1,00,000 روپے، 2021-20,000 روپے، حاصل سود 20,000 روپے، حاصل کرایہ 10,000 روپے، ادا تنخواہیں 1,00,000 روپے، اجرت 20,000 روپے، سفری مصارف 20,000 روپے، تشہیر 50,000 روپے، عمارت کی تعمیر پر حاصل عطیہ 1,00,000 روپے (50% رقم کپٹلائز کیا جاتا ہے)۔